

تربیتی
کتابچہ



مالیاتی تعلیم کی تربیت

FINANCIAL LITERACY

آؤ پروگرام کو جانیں!

3 	2 	1 
پیسے کا استعمال	بچت	گوشوارہ

6 	5 	4 
صارفین کے حقوق و فرائض	مالی اداروں تک رسائی	قرض کا انتظام

ماہانہ سالانہ گوشوارہ کیسے بنائیں؟

مرحلہ 01:




مرحلہ 02:


آمدنی کا اندازاً استعمال:



مرحلہ 03:



بچت کے طریقے



ہدایات:

اوپر دیئے گئے بچت کے طریقوں کے:



فوائد کیا ہیں؟



نقصانات کیا ہیں؟

قرض کیا ہے؟

سکو سامان کی فراہمی کیلئے موٹر سائیکل خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سلیم اسے قرض لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس بارے میں معلومات کے لیے وہ قرض کیسے حاصل کریں، سکو ایک مقامی چھوٹے قرضہ جات فراہم کرنے والے بینک کے افسر جاوید سے ملتا ہے۔




سکو کی موجودگی میں وہاں ایک اور شخص آیا جو کہ قرض لینا چاہتا تھا۔ اس نے بینکر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اسلامی بینکاری کی سہولت موجود ہے اس کے ذریعے میں نے ٹریکٹر خریدنا ہے۔ بینکر نے اپنے صارف کو بتایا کہ ہمارے پاس اسلامک بینکنگ کی سہولت موجود ہے بینک ٹریکٹر خرید کر آپ کو آسان قسطوں میں دے گا جس سے آپ کا روبرو بار کر سکتے ہیں اور قسط بھی با آسانی بینک میں ادا کر سکتے ہیں۔ جاوید سکو کو بتاتا ہے کہ قرض وہ رقم ہے جو کچھ عرصے تک استعمال کی جاسکتی ہے۔ ایک خاص مقررہ مدت کے بعد یہ رقم قرض خواہ کو واپس کرنا ہوتی ہے۔ عام طور پر قرض کی واپسی تک ایک خاص اضافی رقم قسط کے ساتھ ادا کرنا پڑتی ہے۔

اسلامی بینکاری کیا ہے؟

روایتی اور اسلامی بینکاری دیکھنے میں ایک ہی جیسی لگتی ہیں تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟

2 اسلامی بینک  مختلف تجارتوں اور خدمات میں شریعت کے اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کرتا ہے اور حاصل شدہ نفع/نقصان کو اپنے کھاتہ داروں کے درمیان طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتا ہے۔	1 روایتی بینک  لوگوں سے لی گئی رقم کو کاروباری اداروں، سرمایہ کاروں اور کھاتہ داروں کو قرض کی مد میں دیتا ہے اور اس پر حاصل شدہ نفع اپنے کھاتے داروں میں تقسیم کرتا ہے۔
--	---

4 اسلامی بینکوں میں بھی کھاتہ داروں کو اتنا ہی نفع کیوں دیا جاتا ہے جتنا روایتی بینک اپنے کھاتہ داروں کو دیتے ہیں؟  اسلامی بینک مارکیٹ	3 اگر کسٹمر وقت پر ادائیگی نہ کرے تو اسلامی بینک زائد رقم کیوں وصول کرتا ہے؟  معاهدے کے مطابق کسٹمر کی وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اضافی رقم خیرات/صدقہ کی مد میں دیتا ہے اور یہ رقم بینک کے لیے نہیں ہوتی۔
---	--

قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بہت اہم ثبوت ہے جو 18 سال کی عمر کے بعد تمام شہری بنوا سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ تمام بالغ مرد و خواتین کے پاکستانی شہری ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ انتخابات کی رجسٹریشن اور دیگر کاغذات مثلاً پاسپورٹ، سفری کاغذات، لائسنس، بینک کھاتوں اور دیگر مالی لین دین جیسا کہ اثاثہ جات کی خرید و فروخت کیلئے لازمی ہے۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟

☆ ضروری معلومات

- پیدائشی سرٹیفکیٹ یا
- پرانا شناختی کارڈ یا
- میٹرک کی سند یا
- خاندان کے کسی فرد کا شناختی کارڈ
- وزارت داخلہ سے جاری کردہ شہریت کی سند




تصدیق کے بعد فارم واپس جمع کروانا



فارم کی چھپائی



دستخط یا انگوٹھے کا نشان



تصویر کھینچوانا



ٹوکن لینا

بینک سے متعلق خیالات

سکو نے جب موٹر سائیکل پر اپنا کام شروع کر دیا تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا اور ماہانہ بچت بھی ہونا شروع ہو گئی۔ اس رقم کو اس نے گھر میں حفاظت سے رکھنا شروع کر دیا جو بڑھتے بڑھتے 20000 روپے تک پہنچ گئی اب وہ گھبرانے لگا کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔




اس معاملے میں اس نے سلیم سے مشورہ کیا تو اس نے فوراً کہا کہ بھی تم یہ رقم بینک میں جمع کروادو۔
سکو بینک کا نام سن کر خوف زدہ ہو گیا۔

ٹریا سوچتی تھی کہ بینک کے لوگ ہم جیسوں کو منہ نہیں لگاتے۔ جبکہ سکو کو یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی انہیں دھوکا نہ دے دے کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔

اس کا خیال تھا:

2 بینک میں کام کرنے والوں کا رویہ غیر دوستانہ ہوتا ہے	1 بینک میں امیر آدمی ہی جاسکتا ہے
4 اگر بینک میں ڈاکہ پڑ جائے تو آپ کی رقم ڈوب جاتی ہے	3 بینک جانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے

بینک میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟



موبائل اکاؤنٹ کھلوانا




موبائل اکاؤنٹ کھلوانے کیلئے ضروری معلومات

- آپ کا نام اور موبائل نمبر
- تصدیق شدہ رقم
- شناختی کارڈ نمبر اور اس کی کاپی



رقم کی منتقلی کیلئے ضروری معلومات

- وصول کرنے والے کا نام
- وصول کرنے کا فون نمبر
- وصول کرنے والے کا شناختی کارڈ نمبر



موبائل بینکاری کے ذریعے درج ذیل لین دین کی جاسکتی ہیں:

1 اکاؤنٹ بیلنس کی معلومات	2 فنڈز کی منتقلی	3 موبائل پیکیج کی خریداری
4 موبائل فون بلز	5 پمپنگ بلز کی ادائیگی	6 عطیات
7 بیمہ (انشورنس)		

صارفین کی سہولت کیلئے سٹیٹ بینک نے اکاؤنٹ کے مختلف درجات ترتیب دیئے ہیں۔ کم آمدنی والے صارفین کیلئے درجہ 10 اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، جس کیلئے کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 40,000 روپے ماہانہ کی رقم بھجوائی جاسکتی ہے۔

☆ موبائل اکاؤنٹ کے فوائد

- 1 اکاؤنٹ کھولنا نہایت آسان ہے۔
- 2 موبائل نمبر ہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر بن جائے گا۔
- 3 پن کوڈ کی وجہ سے محفوظ موبائل بینکنگ ہے۔
- 4 چارجز کم ہونے کی وجہ سے سستا ہے۔

نوٹ کو پہچاننے کی 8 نشانیاں

4 آر پار نظر آنے والا ہندسہ

نوٹ کی مالیت کا ہندسہ آدھا نوٹ کے سامنے اوپر کی جانب چھپا ہے اور آدھا نوٹ کے پیچھے چھپا ہے۔ جب نوٹ کو روشنی میں آر پار دیکھا جائے تو نوٹ کی مالیت کا ہندسہ مکمل طور پر نظر آتا ہے۔

8 باریک لکھائی

نوٹ کی بالائی دائیں جانب قائد اعظم کی تصویر سے متصل اور پچھلی بائیں جانب حفاظتی پٹی کے قریب باریک لکھائی میں نوٹ کی مالیت کا ہندسہ مطبع ہوتا ہے۔

6 ابھری ہوئی چھپائی

خاص چھپائی کے تحت نوٹ پر قائد اعظم کی شبر وانی، دائیں طرف ہر نوٹ کی مالیت کا ہندسہ اور ہر نوٹ کی دائیں اور بائیں جانب کناروں پر ابھری ہوئی لکیریں بنی ہوئی ہیں جن کو چھو کر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ انہی کناروں کی پچھلی سطح بالکل ہموار ہے۔

1 روشنی میں نظر آنے والی قائد اعظم کی تصویر

تمام نوٹوں کے سامنے کی طرف بائیں جانب قائد اعظم کی تصویر موجود ہے جو روشنی میں دیکھنے سے نظر آتی ہے۔

2 چھپا ہوا ہندسہ

قائد اعظم کی تصویر کے دائیں جانب نوٹ کی مالیت کا چھپا ہوا ہندسہ ہے۔ جب نوٹ کو ہلا کر دیکھا جائے تو یہ ہندسہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔

7 رنگ بدلتا جھنڈا

پانچ سو (۵۰۰)، ہزار (۱۰۰۰) اور پانچ ہزار (۵۰۰۰) روپے کے نوٹوں پر سامنے کی طرف دائیں جانب رنگ بدلتا جھنڈا موجود ہے۔ جب نوٹ کو ہلا کر دیکھا جائے تو جھنڈا رنگ بدلتا نظر آتا ہے۔

3 حفاظتی پٹی



نوٹ کے سامنے کی طرف بائیں جانب ایک پٹی موجود ہے جو نوٹ کے اندر نظر آتی ہے۔ دس (۱۰)، بیس (۲۰) اور پچاس (۵۰) روپے کے نوٹوں پر یہ پٹی مکمل طور پر اندر ہے جبکہ سو (۱۰۰)، پانچ سو (۵۰۰)، ہزار (۱۰۰۰) اور پانچ ہزار (۵۰۰۰) روپے کے نوٹوں پر یہ پٹی اندر اور باہر ہوتی نظر آتی ہے۔

5 ابھرے ہوئے نشان

نوٹ کے سامنے کی طرف بائیں جانب ابھرے ہوئے نشان ہیں جن کو چھو کر پچھلی سے محروم افراد نوٹ کی مالیت جان سکتے ہیں۔ بیس (۲۰)، پچاس (۵۰) اور سو (۱۰۰) روپے کے نوٹوں پر بالترتیب ایک، دو اور تین لکیریں ہیں جبکہ پانچ سو (۵۰۰)، ہزار (۱۰۰۰) اور پانچ ہزار (۵۰۰۰) روپے کے نوٹوں پر بالترتیب ایک، دو اور تین ابھرے ہوئے دائرے ہیں۔

صارفین کے حقوق

”حق: کسی بھی حوالے سے کوئی دعوئی جواچھا بہتر اور اخلاقی پیمانے پر پورا اترتا ہو۔“



صارفین کے فرائض

”فرض: کسی بھی معاہدہ کے نتیجے میں لی گئی ذمہ داری کا احترام کرنا۔“

